



اس شخص نہ عمل تو کم کیا لیکن اسے اجر بہت زیادہ دیا گیا

براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک زربہ پوش شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ: اللہ کے رسول! میں قتال کروں یا پھر اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا: پہلے اسلام لاؤ اور پھر قتال کرنا چنانچہ وہ شخص اسلام لایا، پھر اس نے قتال میں حصہ لیا اور اس میں وہ شہید ہو گیا آپ نے فرمایا کہ: اس شخص نے عمل تو کم کیا لیکن اسے اجر بہت زیادہ دیا گیا

[صحیح] [متفق علیہ]

ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا وہ آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا تھا اور اس نے زربہ پوش رکھی تھی جس نے اسے پوری طرح سے ڈھانپ رکھا تھا اس نے تاحال اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! میں جہاد میں حصہ لوں اور پھر اسلام قبول کروں؟ آپ نے فرمایا: پہلے اسلام قبول کرو اور پھر جہاد میں حصہ لینا چنانچہ وہ شخص اسلام لایا اور جہاد میں شریک ہو گیا لڑنے لڑے وہ شہید ہو گیا اس پر آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے عمل تو کم کیا لیکن اسے اجر بہت زیادہ دیا گیا یعنی اس کے اسلام لانے کے اعتبار سے اس کے قبولیت اسلام اور اس کے قتل ہوجانے کے مابین بہت کم مدت ہے اس کے باوجود اجر بہت زیادہ ہے کیوں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا سب سے افضل عمل ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3570>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

